

مسیح دجال کا مکہ اور مدینہ کے علاوہ سب شہروں میں دخول؟

دخول المسیح الدجال جميع البلاد إلا مكة والمدينة

[اردو- اردو - urdu]

شیخ محمد صالح المنجد

ترجمہ: اسلام سوال و جواب ویب سائٹ

تنسيق: اسلام ہاؤس ویب سائٹ

ترجمة: موقع الإسلام سؤال وجواب

تنسيق: موقع islamhouse

2012 - 1434

IslamHouse.com



مسیح دجال کا مکہ اور مدینہ کے علاوہ سب شہروں میں دخول؟

کیا مسیح دجال کرہ ارضی کے ہر کونے میں گھومے گا یہ کہ لوگ اس کے پاس آئیں گے؟

اور کیا جب اس کا خروج ہو گا تو اس وقت جتنے بھی لوگ زندہ ہوں گے وہ سب اس سے ملیں گے یا کہ بعض لوگوں کے لئے یہ ممکن ہے کہ وہ اس بھاگ جائیں اور اسے نہ دیکھیں؟

کیونکہ میں نے کچھ ایسی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہیں جن میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ لوگ اس سے بھاگ کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔

الحمد لله

مسیح دجال کا خروج مشرق کی جانب سے ہوگا، وہ نکلنے کے بعد زمین میں ہر ایک شہر اور بستی میں جائے گا لیکن وہ مکہ اور مدینہ اور مسجد اقصیٰ اور مسجد طور میں داخل نہیں ہو سکتا جیسا کہ احادیث صحیحہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا:

(دجال کا ظہور مشرقی جانب کے ایک شہر خراسان سے نکلے گا) سنن ترمذی

حدیث نمبر (۲۲۳۷)

علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح ترمذی میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (مکہ اور مدینہ کے علاوہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوگا جسے دجال نہ روند سکے، مکہ اور مدینہ کے ہر راستے پر فرشتے ننگی تلواریں سونتے ہوئے پہرا دیں گے،



پھر مدینہ اپنے مکینوں کے ساتھ تین مرتبہ ہلے گا تو اللہ تعالیٰ ہر کافر اور منافق کو مدینہ سے نکال دے گا (صحیح بخاری (۱۸۸۱) صحیح مسلم (۲۹۴۳) -

اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث روایت بیان کی ہے جس میں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جساسة کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ دجال نے انہیں یہ کہا کہ:

(قریب ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے تو میں نکلنے کے بعد چالیس دن میں کوئی ایسی بستی نہیں ہوگی جس میں داخل نہ ہو جاؤں لیکن مکہ اور طیبہ - یعنی مدینہ - میں داخل نہیں ہوسکوں گا کیونکہ وہ دونوں مجھ پر حرام ہیں ، جب بھی میں ان میں سے کسی ایک میں جانے کی کوشش کروں گا تو میرا استقبال ایک ایسا فرشتہ کرے گا جس نے ہاتھ میں ننگی تلوار سونت رکھی ہوگی اور وہ مجھے اس میں داخل ہونے سے روک دے گا ، اور اس کے ہر راستے پر فرشتے پھرہ دے رہے ہوں گے -

فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی منبر پر مارتے ہوئے فرمایا : کہ یہ طیبہ ہے یہ طیبہ ہے یہ طیبہ ہے یعنی مدینہ ، کیا میں نے تمہیں اس کے متعلق بتایا نہیں تھا ، تو لوگ کہنے لگے جی ہاں ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگے مجھے تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پسند آئی کہ وہ دجال اور مکہ اور مدینہ کے متعلق جو میں تمہیں بیان کیا کرتا تھا اس کے موافق ہے (صحیح مسلم (۲۹۴۲) -

اور امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(میں نے تمہیں مسیح دجال سے ڈرایا تھا اور وہ خراب پھسی ہوئی آنکھ والا ہے ، راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے بائیں آنکھ کے متعلق کہا ، اور اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ اور پانی کی نہریں چل رہی ہوں گی اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ زمین میں چالیس دن رہے گا اور صرف چار مسجدوں کو چھوڑ کر وہ ہر جگہ پر جائے گا ، وہ



چار مسجدیں یہ ہیں ، مسجد حرام ، مسجد نبوی ، مسجد اقصی ، اور مسجد طور (مسند احمد (۲۳۱۳۹) اور اس حدیث کو شعیب ارناؤط نے مسند احمد کی تحقیق میں صحیح کہا ہے -

اور احادیث میں اس بات کا حکم آیا ہے کہ جب دجال کا خروج ہو تو اس سے دور ہی رہا جائے تاکہ جو کچھ شبہات اور خارق عادت اشیاء اس کے ساتھ ہیں ان کی وجہ سے کہیں فتنہ میں نہ پڑ جائے ، کیونکہ ایک شخص آئے گا جو کہ یہ گمان کرتا ہوگا کہ وہ مومن ہے اور ایمان پر ثابت قدم ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس کی پیروی کر لے گا -

عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (جو بھی دجال کا سنے کہ وہ آچکا ہے تو اسے چاہئے کہ وہ اس سے دور ہی رہے ، اللہ تعالیٰ کی قسم بیشک ایک ایسا شخص آئے گا جو کہ یہ خیال کرتا ہوگا کہ وہ مومن ہے لیکن ان شبہات کی بنا پر جو دجال لے کر آئے گا وہ اس کی پیروی کرنے لگے گا) سنن ابو داؤد (۴۳۱۹) مسند احمد (۱۹۸۸۸) اور علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے صحیح ابوداؤد میں صحیح کہا ہے -

تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے فرار ممکن ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ جو اس پالے وہ دجال پر سورۃ الکہف کی شروع والی آیات پڑھے - صحیح مسلم (۲۹۳۷)

طیب کا قول ہے کہ : اس کا معنی یہ ہے کہ ان آیات کا پڑھنا دجال کے فتنہ سے امن کا باعث ہے -

اور ابوداؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ زیادہ ذکر کئے ہیں (بیشک یہ آیات اس کے فتنہ سے تمہیں بچانے والی ہیں) صحیح ابو داؤد (۳۶۳۱)

اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھے ، اور اس کے فتنہ سے بچائے آمین -



والله تعالى اعلم .